

Psa

Chapter 133

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 שִׁיר הַמַּעֲלוֹת לְדָוִד הִנֵּה מָה-טוֹב וּמָה-נְעִים נְשֻׁבֹת אֲתִים גַּם-יָחַד:
گیت چڑھاؤ-کا داؤد-کا دیکھ کیا اچھا اور-کیا خوشگوار رہنا بھائیوں-کا بھی ایک-ساتھ
[H1732](#) [H2009](#) [H4100](#) [H4100](#) [H3427](#) [H0251](#) [H1571](#)

بے-بیارا اور اچھا کتنا یہ ہیں ربتے سے یگانگت اور کر مل بھائی جب گیت۔ کا زیارت زبور۔ کا داؤد

2 כֶּשֶׁמֶן אֶתְרוֹב עַל-הָאֵשׁ יָדַר עַל-הַזָּהָב הַזָּהָב דָּהוּבָה אֶתְרוֹב עַל-הַזָּהָב
تیل-کی-طرح عمده پر سر بہنے-والا پر داڑھی داڑھی بارون-کی جو-بہتا-ہے
[H8081](#) [H3381](#) [H2206](#) [H2206](#) [H0175](#) [H3381](#)

מְדוּתָיו: פִּי
کناروں اُس-کے-کپڑوں-کے
[H6310](#)

بے-جاتا آ پر گریبان کے لباس اور داڑھی کی اُس کر ٹیک ٹیک اور بے جاتا اُنڈیلا پر سر کے امام بارون جو بے مانند کی تیل نفیس اُس یہ

3 כְּטָל-חֶרְמוֹן שִׁירָה עַל-הַרְרֵי צִיּוֹן כִּי אֲשֶׁם וְצִנָּה יְהוָה
اوس-کی-طرح حرمون-کی جو-اترتی-ہے پر پہاڑوں صیون-کے کیونکہ وہاں حکم-دیا یہوواہ-نے
[H2919](#) [H3381](#) [H2042](#) [H6726](#) [H8033](#) [H6680](#) [H3068](#)

אֶת-הַבְּרָכָה חַיִּים עַד-הָעוֹלָם:
کو زندگی برکت تا ابد
[H0853](#) [H1293](#) [H5704](#) [H5769](#)

گی۔ ملے زندگی اور برکت تک ہمیشہ [وہیں ہے، فرمایا نے رب کیونکہ ہے۔ پڑتی پر پہاڑوں کے صیون سے حرمون کوہ جو بے مانند کی اوس اُس یہ